

برائے فوری اجراء

سٹی نے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے BT سیف ایپ کا آغاز کر دیا ہے

برامپٹن، آن (18 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کے لیے BT سیف (BT Safe) ایپ کا آغاز کر دیا ہے۔

BT سیف ایپ iOS اور اینڈرائڈ کے لیے دستیاب ایک ٹرانزٹ سیفٹی موبائل رپورٹنگ سولوشن ہے۔ یہ ایپ برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں کو کسی قسم کی ایذا رسانی، حفاظتی خدشات یا مشکوک سرگرمی کی اطلاع برامپٹن ٹرانزٹ کو براہ راست دینے کے لیے ایک آسان، صارف دوست اور رازدارانہ طریقہ پیش کرتی ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، BT سیف ایپ کی مدد سے مسافر 1-1-9 پر براہ راست اطلاع بھی دے سکتے ہیں۔

اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے، صارفین برامپٹن ٹرانزٹ پر دیکھنے والے واقعات اور حالات کی تفصیلی رپورٹ فراہم کر کے ٹرانزٹ کو سب کے لیے محفوظ بنانے میں مدد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چاہے ایسا کوئی واقعہ گاڑی پر ہو، ٹرمینل پر ہو یا بس اسٹاپ پر۔ رپورٹ کردہ مسائل خفیہ رہیں گے اور گمنام طور پر بتائے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ اپنے مسافروں اور ملازمین کی حفاظت کے لیے پُر عزم ہے۔ BT سیف ایپ برامپٹن ٹرانزٹ کے ایوارڈ یافتہ [سی سمٹھنگ](#)، [بیئر سمٹھنگ](#)، سے سمٹھنگ (See Something, Hear Something, Say Something) عوامی آگاہی پروگرام کی ایک توسیع شدہ شکل ہے تاکہ محفوظ ٹرانزٹ سسٹم کو برقرار رکھا جائے اور برامپٹن ٹرانزٹ کمیونٹی کی حفاظت کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ پروگرام برامپٹن ٹرانزٹ کے تمام ملازمین اور مسافروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ چوکس، باخبر اور تیار رہیں اور حفاظت کے عمل میں ٹرانزٹ کی مدد کریں۔

BT سیف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ سروس اپ ڈیٹس کے لیے bramptontransit.com ملاحظہ کریں یا ہمیں ٹویٹر پر بذریعہ [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) فالو کریں۔ کسی بھی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور BT سیف ایپ کمیونٹی کی حفاظت میں معاون ثابت ہو گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ اپنے مسافروں اور ملازمین کی حفاظت کے لیے پُر عزم ہے اور ہم صارفین سے ایپ کی مدد سے کسی بھی قسم کی مشکوک یا غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع دینے کی گزارش کرتے ہیں۔ مل کر، ہم اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"BT سیف ایپ iOS اور اینڈرائڈ کے لیے دستیاب استعمال میں آسان ایپ ہے۔ اگر آپ کو کسی حفاظتی خدشے کی اطلاع دینے کی ضرورت ہو، تو بس ایپ کھولیں اور سیکورٹی سروسز کو براہ راست پیغام دینے کے لیے 'ابھی رپورٹ کریں (Report Now)' کا انتخاب کریں یا پولیس، فائر سروس یا طبی امداد کی ضرورت پڑنے پر کسی ایمرجنسی کی اطلاع دینے کے لیے '911 ایمرجنسی (911 Emergency)' کو منتخب کریں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن بڑھتی ہوئی حفاظت اور ہموار مواصلات کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پُر عزم ہے۔ BT سیف ایپ برامپٹن ٹرانزٹ کے لیے اس کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔"

- پال مورین، انٹیریم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارا سسٹم ہمارے مسافروں اور ملازمین کے لیے محفوظ رہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں اور ہم اپنی کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے حفاظتی خدشات کی اطلاع دیں۔"

- ایلکس ملوجیوک، جنرل مینیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca